

## کرونا وائرس - سکول کے روزمرہ معمول کے بارے میں والدین کے لیے معلومات

انفیکشن کو محدود کرنے کے لیے ہم نے سکول میں کئی اقدامات شروع کیے ہیں۔ ٹریفک لائٹ کی مثال سے سبز، پیلے اور سرخ رنگ سے ظاہر کیا جاتا ہے کہ انفیکشن کی مختلف سطحوں پر سکولوں کے لیے انفیکشن سے بچاؤ کے کون سے اقدامات لاگو ہیں۔ ناروے میں انفیکشن کی صورتحال کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے کہ سکول میں ہم کس سطح کے مطابق چلیں گے۔

### بچوں کا سکول آنا محفوظ ہے

ہم اب بھی یقینی بنائیں گے کہ طالب علموں کو سکول میں محفوظ اور اچھا ماحول میسر ہو۔ سکول میں کام کرنے والے سب لوگ طالب علموں کی خیریت کا دھیان رکھیں گے۔ ہم آئندہ عرصے میں انفیکشن سے بچاؤ کے اچھے اقدامات کے بارے میں اور بھی محتاط رہیں گے۔ ہم بالخصوص ان چیزوں پر توجہ دیں گے:

- اگر کوئی بیمار ہو تو وہ سکول یا SFO میں نہیں آئے گا۔
- آپ لوگ سکول آنے سے پہلے ہاتھ دھوئیں۔
- سکول میں ہاتھوں کا اچھا حفظان صحت اور صفائی اہم ہے۔

### سکول میں دن کیسے گزرے گا؟

**سبز سطح:** سکول کا دن نارمل معمول کے مطابق ہو گا لیکن طالب علم اور اساتذہ ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے گریز کریں گے۔

**پیلی سطح:** سکول میں طالب علم پوری کلاس کی صورت میں جمع ہو سکتے ہیں اور سب طالب علموں کو سکول میں عام تعلیمی دنوں میں کل وقتی پیشکش ملے گی۔ سکول کی عمارت کو اس طرح حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے کہ کلاسوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا جائے۔ طالب علم اور اساتذہ ہاتھ ملانے، گلے ملنے اور بڑے گروپوں میں اکٹھے ہونے سے گریز کریں گے۔

**سرخ سطح:** طالب علموں کو چھوٹے گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہمیں یہ حد مقرر کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ کتنے طالب علم سکول آ سکتے ہیں۔ ہم طالب علموں کو یہ ہدایت بھی کر سکتے ہیں کہ وہ مختلف اوقات پر سکول آئیں۔ ہمیں ایک دوسرے سے خوب فاصلہ رکھنا ہو گا اور طالب علم بہت سا وقت باہر گزاریں گے، سکول کے عام پیریڈوں میں بھی۔

### سکول ٹرانسپورٹ

**پیلی سطح:** جو طالب علم سکول ٹرانسپورٹ پر انحصار کرتے ہیں، وہ سکول آنے اور جانے کے لیے بس یا کسی اور ٹرانسپورٹ سے سفر سکتے ہیں۔ طالب علموں کو ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا چاہیے لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ طالب علم دوسرے طالب علموں سے ایک میٹر کا فاصلہ رکھیں، اگرچہ دوسرے مسافروں کے لیے یہ پابندی ہے۔

**سرخ سطح:** اگر طالب علم سکول بس یا کسی اور ٹرانسپورٹ سے سفر کریں تو انہیں خوب فاصلہ رکھنے کا خیال رکھنا ہو گا، بس کا انتظار کرتے ہوئے بھی اور بس میں بھی۔ طالب علموں کو غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ کسی اور ٹرانسپورٹ سے سکول آ سکتے ہیں۔

### سب طالب علموں کے لیے تحصیل علم کی ذمہ داری

سب طالب علموں کو تحصیل علم کا حق ہے اور سکول سب طالب علموں کے لیے اچھی تعلیمی پیشکش یقینی بنائے گا خواہ انفیکشن کی سطح سبز ہو، پیلی ہو یا سرخ ہو۔

کیا آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں - سکول میں ہم سے رابطہ کریں (۰۲۰)